

ROOTWORDS OF SURAH MARYAM 76-98

مَرَدًّا	لَ+أُوتِيَ+نَ	وَلَدًا	أَ+طَلَعَ	فَرَدًّا
ر د د	لام التوكيد + أَ ت ي مجهول + نون للتوكيد	و ل د	استفهام + ط ل ع	ف ر د
انجام میں	البتہ ضرور دیا جائے گا	اولاد	کیا اس کو پتہ چل گیا	اکیلا
return	Surely, I will be given	children	We will drag out	alone

ضِدًّا	تَوَزُّ+هُمْ	أَزًّا	وَفْدًا	نَسُوقُ
ض د د	أ ز ز + ضمیر مفعول بہ	أ ز ز	و ف د	س و ق
خلاف۔ مخالف	ابھارتے ہیں + ان کو	ابھارنا	مہمان بنا کر	ہم ہانک لے جائیں گے
opponents	inciting them	incitement	a delegation	We will drive

وَرْدًا	إِدًّا	يَتَفَطَّرْنَ	تَخْرُجُ	هَدًّا
و ر د	أ د د	ف ط ر	خ ر ر	ہ د د
وارد ہونے والا۔ سخت پیاسی حالت میں	سخت	پھٹ پڑیں	گر پڑیں	ٹوٹ کر۔ بھر بھرے ہو کر
thirsty	atrocious	get torn	collapse	devastation

رِكْزَا	لُدَّا	وُدَّا	فَرَدَّا	أَحْصَىٰ + هُمْ
ر ک ز	ل د د	و د د	ف ر د	ح ص ي + ضمير مفعول به
کوئی آہستہ آواز۔ کوئی بھنک	جھگڑالو	محبت	اکیلے۔ تنہا	اس نے گھیر رکھا ہے + ان کو
a sound	hostile	affection	alone	He has enumerated them